

پالیسی نمبر NATL.CB.307	پالیسی عنوان طبی مالی امداد
مؤثر تاریخ 1 جنوری، 2024	قابل احتساب محکمہ نیشنل کمیونٹی بیلٹہ
صفحہ 1 از 27	دستاویز کا مالک ڈائریکٹر، طبی مالی امداد

1.0 پالیسی کا بیان

Kaiser Foundation Hospitals (KFHP) اور Kaiser Foundation Health Plans (KFHP) نادار آبادیوں کو ایسے پروگرامز مہیا کرنے کے لئے پر عزم ہیں جن سے ان کو دیکھے بھاں تک رسائی میں سبولت ہوتی ہے۔ اس عزم میں ابل کم آمدنی والے غیر بیمه شدہ اور کم بیمه شدہ مریضوں کو مالی امداد فراہم کرنا شامل ہے جب خدمات کے لیے ادائیگی کرنے کی صلاحیت ہنگامی اور طبی طور پر ضروری دیکھے بھاں تک رسائی میں رکاوٹ بتتی ہے۔

2.0 مقصد

یہ پالیسی میڈیکل فانشیل اسٹیشن (MFA) پروگرام کے ذریعے بنگامی اور طبی طور پر ضروری خدمات کے لیے ابل ہونے اور مالی امداد حاصل کرنے کے تقاضوں کی وضاحت کرتی ہے۔ یہ تقاضے ریاستہائے متحده کے داخلی محصول کوڈ کے سیکشن (r) 501 اور ابل خدمات، رسائی حاصل کرنے کے طریقہ، پروگرام کی ابلیت کے معیار، MFA ایوارڈ کے ڈھانچہ، ایوارڈ کی رقم کا حساب لگانے کی بنیاد اور طبی بلون کی عدم ادائیگی کی صورت میں قابل اجازت کارروائیوں سے متعلق قبل اطلاق ریاستی ضوابط کے مطابق ہیں۔

3.0 دائرہ کار

یہ پالیسی ان ملازمین پر لاگو ہوتی ہے جو درج ذیل اداروں اور ان کے ذیلی اداروں میں ملازم ہیں (مجموعی طور پر جنہیں "KFHP/H" کہا جاتا ہے):

;Kaiser Foundation Health Plan, Inc. (KFHP) **3.1**

اور;Kaiser Foundation Hospitals (KFH) **3.2**

KFHP/H ذیلی ادارے۔ **3.3**

یہ پالیسی ضمیمه برائے *Kaiser Permanente Regions (Addenda for Kaiser)*، منسلکات 1-8 میں درج *Permanente Regions* اور اسپتال سے منسلک کلینیکس پر لاگو ہوتی ہے۔ **3.4**

4.0 تعریفیں

ضمیمه اے اصطلاحات کی فربنگ، ملاحظہ فرمائیں۔

پالیسی نمبر NATL.CB.307	پالیسی عنوان طبی مالی امداد
مؤثر تاریخ 1 جنوری، 2024	قابل احتساب محکمہ نیشنل کمیونٹی بیلٹھے
صفحہ 2 از 27	دستاویز کا مالک ڈائریکٹر، طبی مالی امداد

دفعات 5.0

KFHP/H مریض کی عمر، معدوری، جنس، نسل، مذہبی وابستگی یا امیگریشن کی حیثیت، جنسی رجحان، قومی اصل، اور چابے مریض کی صحت کی کورجیج ہو یا نہ ہو، ابل مریضوں کے لیے ہنگامی اور طبی طور پر ضروری دیکھ بھال حاصل کرنے میں مالی رکاوٹوں کو کم کرنے کے لیے ایک ذرائع کا ٹیسٹ شدہ MFA پروگرام برقرار رکھتا ہے۔

5.1 خدمات جو MFA پالیسی کے تحت ابل اور غیر ابل بین

5.1.1 ابل خدمات. MFA کا اطلاق بعض (1) طبی طور پر ضروری صحت کی دیکھ بھال کی خدمات، بشمول بنگامی دیکھ بھال؛ (2) فارمیسی خدمات اور مصنوعات، اور (3) Kaiser Permanente (KP) کی سہولیات (مثلاً، بسپتالوں، بسپتال سے منسلک کلینیکس، طبی مراکز، اور طبی دفتر کی عمارتوں)، KFHP/H آؤٹ پیشنت، میل آرڈر اور سپیشلٹی فارمیسیوں، یا KP فرایم کنندگان کے ذریعے فرایم کردہ طبی سپلائز پر کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ ذیل میں بیان کیا گیا ہے:

5.1.1.1 طبی طور پر ضروری خدمات. KP کے فرایم کنندہ کے ذریعے یا ان کے آرڈر پر فرایم کی کی ایسی دیکھ بھال، علاج، یا خدمات جو کسی طبی حالت کی روک تھام، قدرپیمائی، تشخیص یا علاج کے لیے درکار ہیں اور بنیادی طور پر مریض یا طبی نگہداشت فرایم کرنے والے کی سہولت کے لیے نہیں ہیں۔

5.1.1.2 نسخہ جات اور فارمیسی سپلائز. نسخے H فارمیسی میں پیش کیے جاتے ہیں اور KP فرایم کنندگان اور معابدہ شدہ فرایم کنندگان، زان KP ایمر جنسی ڈیپارٹمنٹ اور ارجمنٹ کیئر پرووائیڈر، ڈاکٹرز آف میڈیسن ان ڈینٹسٹری (DMD) اور ڈاکٹرز آف ڈینٹل سرجری (DDS) کے ذریعے لکھے جاتے ہیں۔

5.1.1.2.1 جنرک (عام) دوائیں. جہاں ممکن ہو، جنرک ادویات کا استعمال کرنا ترجیحی ہے۔

5.1.1.2.2 برانڈ ادویات. KP فرایم کنندہ کے ذریعے تجویز کردہ برانڈ نام والی دوائیں اس وقت ابل ہوتی ہیں جب:

5.1.1.2.2.1 نسخے پر "جیسا لکھا ہے ویسی دوا دین" (DAW) کا نوٹ لکھا ہو، یا

5.1.1.2.2.2 کوئی جنرک مماثل دوا دستیاب نہ ہو۔

5.1.1.2.3 بغیر نسخے پر ملنے والی دوائیں یا فارمیسی سپلائز۔ یہ پرائیٹس اس وقت ابل ہوتے ہیں جب:

5.1.1.2.3.1 KP کے کسی فرایم کنندہ نے نسخہ یا آرڈر لکھا ہو؛

پالیسی نمبر NATL.CB.307	پالیسی عنوان طبی مالی امداد
مؤثر تاریخ 1 جنوری، 2024	قابل احتساب محکمہ نیشنل کمیونٹی بیلٹہ
صفحہ 27 از 3	دستاویز کا مالک ڈائریکٹر، طبی مالی امداد

5.1.1.2.3.2 یہ آئٹم KP کے فارمیسی سے دی گئی ہو؛ اور

5.1.1.2.3.3 یہ آئٹم KP فارمیسی میں باقاعدگی سے دستیاب ہو۔

5.1.1.2.4 Medicare کے مستفیدین۔ Medicare پر فارمیسی چھوٹ کی شکل میں پارٹ ڈی کے تحت شامل نسخہ جاتی دواؤں کے لیے درخواست دی گئی ہے۔

5.1.1.2.5 دانتوں کی دوائیں DDS یا DMD کے ذریعے تجویز کردہ آؤٹ پیشنت دوائیں قابل قبول ہیں اگر دوائیں دانتوں کی خدمات کے علاج کے لئے طبی طور پر ضروری ہوں۔

5.1.1.3 پانیدار طبی آلات (DME)۔ قابل اطلاق DME دراصل KP سہولیات سے باقاعدگی سے دستیاب آلات تک محدود ہے، اور KFHP/H کے ذریعے ایسے مریض کو فراہم کیا جانا ہے جو طبی ضرورت کے معیار پر پورا اترتا ہو۔ KP فراہم کنندہ کے ذریعے DME کے رہنمای خطوط کے مطابق آرڈر کرنا چاہیے۔

5.1.1.4 Medicaid سے انکار کردہ خدمات، طبی خدمات، نسخہ جات، فارمیسی سپلائیز، اور DME جو ریاست کے Medicaid شامل نہیں ہیں، لیکن طبی طور پر ضروری اور KP فراہم کنندہ کے ذریعے آرڈر کرنے کا عزم کیا گیا ہے (مثلاً، نوزائیدہ کا ختنہ، برنسیا کی خدمات، فارماسیوٹیکل مرکبات، علامات کے علاج کے لیے ادویات، وغیرہ)۔

5.1.1.5 صحت کی تعلیم کی کلاسیں。KP کی طرف سے شیڈول کردہ اور فراہم کردہ دستیاب کلاسیں جن کی سفارش KP کے فراہم کنندہ نے مریض کی دیکھ بھال کے منصوبے کے حصے کے طور پر کی ہو۔

5.1.1.6 استثنی کی بنیاد پر دستیاب خدمات، بعض غیر معمولی حالات میں، MFA کو منتخب خدمات اور سپلائیز پر لاگو کیا جا سکتا ہے جو بسپیتال سے داخل مریضوں کو ٹسچارج کرنے کے لیے درکار ہیں جو کہ ذیل میں بیان کردہ اعلیٰ طبی اخراجات کی ایبلیت کے معیار پر پورا اترتا ہے، سیکشن 5.6.2 دیکھیں۔ اگر مریض معیار پر پورا اترتا ہے تو، کور کی جانبے والی خدمات میں بذر مند نرنسنگ، انٹرمیڈیٹ کیئن اور کسٹوڈیل خدمات شامل ہو سکتی ہیں جو غیر KP سہولت پر فراہم کی جاتی ہیں۔ سپلائیز میں KP فراہم کنندہ کی طرف سے تجویز کردہ یا آرڈر کردہ DME شامل ہو سکتا ہے اور ایک معابدہ شدہ/وینڈر کے ذریعے فراہم کیا گیا ہو جیسا کہ ذیل میں بیان کیا گیا ہے۔

پالیسی نمبر NATL.CB.307	پالیسی عنوان طبی مالی امداد
مؤثر تاریخ 1 جنوری، 2024	قابل احتساب محکمہ نیشنل کمیونٹی بیلٹہ
صفحہ 27 از 4	دستاویز کا مالک ڈائریکٹر، طبی مالی امداد

5.1.1.6.1 ہنر مند نرسنگ سروسز، انٹرمیڈیٹ کیئر اور کسٹوڈیل سروسز، ایک معابدہ شدہ KP سہولت کے ذریعہ مرضی کو تجویز کردہ طبی ضرورت کے ساتھ پسپتال سے داخل مريضوں کو خارج کرنے کی سہولت فراہم کی جاتی ہے۔

5.1.1.6.2 پانیدار طبی آلات (DME) کے DME کے ربنا مخطوط کے مطابق KP فراہم کنندہ کے ذریعہ وینٹر کی طرف سے فراہم کردہ DME کا آرٹر دیا گیا اور KFHP/H DME ٹیپارٹمنٹ کے ذریعے ایک کنٹریکٹ یافہ وینٹر کے ذریعے فراہم کیا گیا۔

5.1.2 غیر اہل خدمات جن پر MFA لاگو نہیں کیا جا سکتا ہے:

5.1.2.1 خدمات جو ہنگامی نوعیت یا طبی طور پر ضروری تصور نہ ہوں جیسے کہ KP فراہم کنندہ کی جانب سے تعین کیا گیا ہے۔ ذیل میں ان خدمات کی مثالوں کی ایک غیر مکمل فہرست ہے جو غیر ہنگامی یا طبی طور پر ضروری نہیں ہیں۔

5.1.2.1.1 کاسمیٹک سرجی یا خدمات، بشمول ڈرمیٹولوچی کی خدمات جو بنیادی طور پر مرض کی ظاہری شکل کو بہتر بنانے کے مقصد کے لیے ہوں۔

5.1.2.1.2 بانجہ پن کے علاج اور متعلقہ خدمات بشمول تشخیص۔

5.1.2.1.3 ریٹیل میڈیکل سپلائز۔

5.1.2.1.4 متداول معالجات، بشمول ایکیوپنکچر، کائروپریکٹک، اور مساج کی خدمات۔

5.1.2.1.5 جنسی غیر فعالیت کے علاج کے لئے انجکشنز اور آلات۔
5.1.2.1.6 سروگیسی خدمات۔

5.1.2.1.7 فریق ثالث کی نہ مداری، ذاتی بیمه کا تحفظ یا کارکنوں کے معاوضے کے معاملات سے متعلق خدمات۔

5.1.2.1.8 غیر KP صحت بیمه والے مريضوں کے لیے خدمات۔ غیر ہنگامی یا غیر فوری خدمات اور آٹ پیشنت فارمیسی سپلائز جو مرض کی غیر KP صحت کو ریج کے تحت آتی ہیں جن کے لیے مريضوں کو ترجیحی غیر KP فراہم کنندگان اور فارمیسیوں کے مخصوص نیٹ ورک کو استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔

پالیسی نمبر NATL.CB.307	پالیسی عنوان طبی مالی امداد
مؤثر تاریخ 1 جنوری، 2024	قابل احتساب محکمہ نیشنل کمیونٹی بیلٹہ
صفحہ 27 از 5	دستاویز کا مالک ڈائریکٹر، طبی مالی امداد

5.1.2.2 نسخہ جات اور فارمیسی سپلائز جنہیں بنگامی یا طبی طور پر ضروری

نہیں سمجھا جاتا۔ نسخہ جات اور فارمیسی سپلائز جن کو بنگامی یا طبی طور پر ضروری نہیں سمجھا جاتا ہے ان میں درج ذیل شامل ہیں، لیکن انہی تک محدود نہیں ہیں:

5.1.2.2.1 وہ دوائیں جن کی فارمیسی اور تھیراپیوٹکس کمیٹی نے منظوری نہیں دی ہے۔

5.1.2.2.2 بغیر پرچے کے ملنے والی ادویات اور سپلائز جو KP فرابم کنندہ کے ذریعے تجویز کردہ یا آرڈر کردہ نہیں ہوں۔

5.1.2.2.3 بغیر پرچے کے ملنے والی ادویات اور سپلائز جو KP فارمیسی میں باقاعدگی سے دستیاب نہیں ہوتی ہیں اور ان کے لیے خاص طور پر آرڈر دیا جانا ہوتا ہے۔

5.1.2.2.4 فریق ثالث کی ذمہ داری، ذاتی بیمه کا تحفظ یا کارکنوں کے معاوضے کے معاملات سے متعلق نسخہ جات۔

5.1.2.2.5 خاص طور پر خارج شدہ دوائیں (مثلاً تولیدی صلاحیت، کاسمیٹک، جنسی فعالیت کی کمی)۔

5.1.2.3 Medicare پارٹ ڈی میں اندرج کرنے والوں کے لیے نسخے کم

آمدنی والے سبستی (LIS) پروگرام کے لیے ابل یا اندرج شدہ Medicare Advantage پارٹ ڈی میں اندرج کرنے والوں کے لیے نسخہ جاتی دواؤں کے لیے باقی لاگت کا اشتراک جو یا تو LIS پروگرام کے لیے ابل یا اندرج شدہ ہیں، سینٹرز فار Medicaid اینڈ سروسز (CMS) کے رہنمای خطوط کے مطابق۔

5.1.2.4 KP سہولیات سے باہر فرابم کردہ خدمات MFA پالیسی کا اطلاق

صرف KP سہولیات پر یا KP فرابم کنندگان کی طرف سے فرابم کردہ خدمات پر ہوتا ہے۔

5.1.2.4.1 حٹی کہ KP فرابم کنندہ کے ذریعے ریفل کیے جانے پر بھی، دیگر تمام خدمات MFA کے لیے ناابل ہیں۔

5.1.2.4.2 غیر KP طبی دفاتر، فوری نگہداشت کی سہولیات اور بنگامی محکموں کے ساتھ ہی غیر KP بوم بیلٹہ، بیسپیاس، صحت یابی کی دیکھ بھاں، اور کسٹوڈیل کیئر سروسز میں فرابم کی جانے والی خدمات کو خارج کر دیا گیا ہے جب تک کہ اوپر سیکشن 5.1.1.6 کے مطابق استثناء کے طور پر شناخت نہ کیا جائے۔

پالیسی نمبر NATL.CB.307	پالیسی عنوان طبی مالی امداد
مؤثر تاریخ 1 جنوری، 2024	قابل احتساب محکمہ نیشنل کمیونٹی بیلٹہ
صفحہ 27 از 6	دستاویز کا مالک ڈائریکٹر، طبی مالی امداد

5.1.2.5 پانیدار طبی آلات (DME).

معاہدہ شدہ وینڈر کی طرف سے فرایم کردہ DME

کو خارج کر دیا جاتا ہے قطع نظر اس کے کہ یہ KP فرایم کنندہ

کی طرف سے آرڈر کیا گیا ہے، جب تک کہ اوپر سیکشن 5.1.1.6

کے مطابق استثناء کے طور پر شناخت نہ کیا جائے۔

5.1.2.6 نقل و حمل کی خدمات اور سفری اخراجات.

MFA پروگرام مریضوں کو ہنگامی یا غیر ہنگامی نقل و حمل یا سفر سے متعلق اخراجات (یعنی

ربائش اور کھانے) کی ادائیگی میں مدد نہیں کرتا ہے۔

5.1.2.7 صحت کے منصوبوں کی پریمینز.

MFA پروگرام مریضوں کو صحت کی دیکھ بھال کی کوریج (یعنی واجبات یا پریمیم) سے منسلک اخراجات

کی ادائیگی میں مدد نہیں کرتا ہے۔

5.1.3 علاقے کے احاظ سے اپل اور غیر اپل خدمات اور مصنوعات کے بارے میں

اضافی معلومات متعلقہ ضمیمه میں موجود ہے۔ ضمیمه برائے

Kaiser Permanente Regions (Addenda for Kaiser Permanente

Regions، منسلکات 8-1 دیکھیں۔

فرایم کنندگان MFA کا اطلاق صرف طبی نگہداشت فرایم کنندگان کے ذریعے فرایم کردہ ان

اپل خدمات پر ہوتا ہے جن پر MFA پالیسی لاگو ہوتی ہے۔ ضمیمه برائے

Kaiser Permanente Regions (Addenda for Kaiser Permanente Regions)

منسلکات 8-1 دیکھیں۔

5.2

پروگرام معلومات کے ذرائع اور MFA کے لیے درخواست کیسے دینی ہے۔ MFA پروگرام

کے بارے میں اضافی معلومات اور درخواست دینے کے طریقہ کا خلاصہ متعلقہ ضمیمه

میں دیا گیا ہے۔ ضمیمه برائے

Kaiser Permanente Regions (Addenda for Kaiser Permanente Regions)

Kaiser Permanente Regions، منسلکات 8-1 دیکھیں۔

5.3

پروگرام معلومات کے ذرائع MFA پالیسی کی نقول، درخواست فارمز، بدایات، اور

سادہ زبان میں خلاصے (جیسے پالیسی کے خلاصے یا پروگرام بروشورز)

بلامعاوضہ KFHP/H کی ویب سائٹ پر، بذریعہ ای میل، ذاتی طور پر، یا امریکی

پوسٹ میل کے ذریعے عوام کے لیے دستیاب ہیں۔

5.3.1 پروگرام معلومات کے ذرائع. MFA پالیسی کی نقول، درخواست فارمز، بدایات، اور

یا KP خدمات کے لیے بقا یا بیلنس، KP کے ساتھ طے شدہ ملاقات،

یا KP فرایم کنندہ کی طرف سے اپل خدمات کے لیے آرڈر کیے گئے فارمیسی

نسخے کی فوری ضرورت کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے جیسا کہ اوپر بیان

کیا گیا ہے۔ MFA پروگرام کے لیے مریض متعدد طریقوں سے درخواست دے سکتا

ہے شمول آن لائن، ذاتی طور پر، ٹیلیفون کے ذریعے، یا کاغذی درخواست

کے ذریعے۔

5.3.2 MFA کے لیے MFA پروگرام کے لیے درخواست دینے کے لیے،

ایک مریض کو KP خدمات کے لیے بقا یا بیلنس، KP کے ساتھ طے شدہ ملاقات،

یا KP فرایم کنندہ کی طرف سے اپل خدمات کے لیے آرڈر کیے گئے فارمیسی

نسخے کی فوری ضرورت کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے جیسا کہ اوپر بیان

کیا گیا ہے۔ MFA پروگرام کے لیے مریض متعدد طریقوں سے درخواست دے سکتا

ہے شمول آن لائن، ذاتی طور پر، ٹیلیفون کے ذریعے، یا کاغذی درخواست

کے ذریعے۔

پالیسی نمبر NATL.CB.307	پالیسی عنوان طبی مالی امداد
مؤثر تاریخ 1 جنوری، 2024	قابل احتساب محکمہ نیشنل کمیونٹی بیلٹہ
صفحہ 7 از 27	دستاویز کا مالک ڈائریکٹر، طبی مالی امداد

KP MFA 5.3.2.1 پروگرام۔ مریضوں کو KP کے خدمت ایریا میں KP پروگرام کے لیے درخواست دینے کی ضرورت ہے کہ وہ KP سے خدمات حاصل کر رہے ہیں۔

5.3.2.2 پبلک اور پرائیویٹ پروگرام کی اہلیت کے لیے مریضوں کی اسکریننگ۔ تمام افراد کو صحت کی دیکھ بھال کی خدمات تک رسائی کو یقینی بنانے، مجموعی ذاتی صحت اور مریضوں کے اثنوں کے تحفظ کے لیے صحت بیمه کو ریج حاصل کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ KFHP/H Medicaid KFHP/H غیر بیمه شدہ مریضوں یا ان کے ضامنوں کو اور بیلٹہ بینیفٹ ایکسچینج پر دستیاب کو ریج سمیت دستیاب امدادی پروگراموں کی شناخت اور درخواست دینے میں مدد کرے گا۔ ایک مریض جو Medicaid کے لیے اپل سمجھا جاتا ہے یا بیلٹہ بینیفٹ ایکسچینج پر دستیاب کو ریج کو ان پروگراموں کے لیے درخواست دینے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ جن مریضوں کی مالی حیثیت Medicaid کی آمدنی کے اہلیت کے پرائمیٹر سے زیادہ ہے انہیں Medicaid کے لیے درخواست دینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔

5.4 **MFA** کے لیے درخواست دینے کے لیے درکار معلومات۔ MFA پروگرام کے لیے اہلیت کا تعین کرنے کے لیے مریض کی مالی حیثیت کی توثیق کرنے کے لیے مکمل ذاتی، مالی اور دیگر معلومات درکار ہوتی ہیں، ساتھ ہی Medicaid کے لیے اہلیت اور بیلٹہ بینیفٹ ایکسچینج پر دستیاب رعایتی کو ریج۔ ہر بار جب مریض مدد کے لیے درخواست دیتا ہے تو مریض کی مالی حیثیت کی تصدیق کی جاتی ہے۔

5.4.1 **MFA** کے لیے درخواست کے ساتھ گھرانے کا سائز اور گھریلو آمدنی کی معلومات شامل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تاب، مالی حیثیت کی تصدیق کی اجازت دینے کے لیے مالی دستاویزات جمع کرانا اختیاری ہے جب تک کہ KP کی طرف سے خصوصی طور پر درخواست نہ کی جائے۔

5.4.1.1 **MFA** کے لیے درخواست کے ساتھ گھرانے کا سائز اور گھریلو آمدنی کی معلومات شامل نہیں ہیں، تو مریض کی مالی حیثیت کی تصدیق بیرونی ڈیٹا کے ذرائع سے کی جائے گی۔ اگر کسی مریض کی مالی حیثیت کی تصدیق بیرونی ڈیٹا کے ذرائع سے نہیں کی جا سکتی ہے، تو مریض سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی مالی حیثیت کی تصدیق کی اجازت دینے کے لیے MFA پروگرام کی درخواست میں بیان کردہ مالی دستاویزات جمع کرائیں۔

5.4.1.2 **MFA** کے لیے درخواست کے ساتھ مالی حیثیت کی تصدیق کرنا۔ اگر مالیاتی دستاویزات کے ساتھ شامل نہیں ہیں، تو اہلیت فراہم کردہ معلومات پر مبنی ہوگی۔

5.4.2 **MFA** کے لیے درخواست کے ساتھ مالی حیثیت کی تصدیق کرنا۔ اگر مالیاتی ذاتی، مالی اور دیگر معلومات موصول ہونے کے بعد کیا جاتا ہے۔

پالیسی نمبر NATL.CB.307	پالیسی عنوان طبی مالی امداد
مؤثر تاریخ 1 جنوری، 2024	قابل احتساب محکم نیشنل کمیونٹی بیلٹہ
صفحہ 27 از 8	دستاویز کا مالک ڈائریکٹر، طبی مالی امداد

5.4.3 نامکمل معلومات. ایک مریض کو ذاتی طور پر، بذریعہ ڈاک، یا ٹیلی فون کے ذریعے مطلع کیا جاتا ہے اگر مطلوبہ معلومات موصول نہیں ہوتی ہیں۔ مریض 30 دنوں کے اندر گمشدہ معلومات جمع کرا سکتا ہے: نوش بھجنے کی تاریخ، ذاتی گفتگو ہوئی، یا ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی۔ نامکمل معلومات کی وجہ سے MFA سے انکار کیا جا سکتا ہے۔

5.4.4 درخواست کردہ معلومات دستیاب نہیں ہے۔ ایک مریض جس کے پاس پروگرام کی درخواست میں بیان کردہ مطلوبہ معلومات نہیں ہیں وہ اہلیت کو ظاہر کرنے کے لیے دیگر دستیاب دستاویزات پر بات کرنے کے لیے H/KFHP سے رابطہ کر سکتا ہے۔

5.4.5 کوئی مالی معلومات دستیاب نہیں ہے۔ ایک مریض کو کم از کم بنیادی مالی معلومات (یعنی آمدنی، اگر کوئی ہے، اور ذریعہ) فراہم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کی درستگی کی تصدیق کرتا ہے جب: (1) ان کی مالی حیثیت کی تصدیق بیرونی ٹیٹھا کے ذرائع سے نہیں کی جا سکتی۔ (2) درخواست کردہ مالی معلومات دستیاب نہیں ہے؛ اور (3) کوئی دوسری دستاویز موجود نہیں ہے جو اہلیت کو ظاہر کر سکے۔ اگر مندرجہ ذیل میں سے کوئی لاگو ہوتا ہے تو مریض سے بنیادی مالی معلومات اور تصدیق کی ضرورت ہے:

5.4.5.1 مریض بے گھر ہے یا بے گھروں کے کلینک سے نگداشت کا وصول کننده ہے۔

5.4.5.2 مریض کی کوئی آمدنی نہیں ہے، اسے اپنے اجر سے باضابطہ تنخواہ کی رسید نہیں ملتی ہے (ان کو چھوڑ کر جو خود ملازم ہیں)، مالی تحائف وصول کرتے ہیں، یا پچھلے ٹیکس سال میں وفاqi یا ریاستی انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔

5.4.5.3 مریض کسی معروف قومی یا علاقائی آفت یا صحت عامہ کی بنگامی صورتحال سے متاثر ہوا ہے (ذیل میں سیکشن 5.11 دیکھیں)۔

5.4.6 مریض کا تعاون۔ مریض کو تمام مطلوبہ معلومات فراہم کرنے کے لیے معقول کوشش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر تمام درخواست کردہ معلومات فراہم نہیں کی جاتی ہیں، تو اہلیت کا تعین کرتے وقت حالات پر غور کیا جا سکتا ہے۔

5.5 فرضی اہلیت کا تعین۔ مکمل کردہ درخواست کی عدم موجودگی میں مالی امداد کی منظوری ایسی صورتوں میں دی جا سکتی ہے جہاں مریض پر بقايا بیلنس ہو، KP تک رسائی کی کوششوں کا جواب نہیں دیا ہو اور درخواست نہیں دی ہو لیکن دیگر دستیاب معلومات مالی مشکلات کو ثابت کرتی ہوں۔ اگر اہل بونے کا تعین کیا جاتا ہے، تو مریض کو مالی حیثیت کی تصدیق کے لیے ذاتی، مالی، یا دیگر معلومات فراہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اسے خود بخود MFA ایوارڈ فتویض کر دیا جائے گا۔ ممکنہ اہلیت کے تعین کی وجہ اور معاون معلومات مریض کے کھاتے میں درج کی جائیں گی اور مریض کے اضافی نوش شامل کیے جا سکتے ہیں۔ کسی مریض کو اہل سمجھا جاتا ہے اور اگر مریض پہلے سے اہل ہو گیا ہو یا مالی مشکلات کے اشارے ہوں تو دستاویز کے تقاضے معاف کر دیے جاتے ہیں۔

پالیسی نمبر NATL.CB.307	پالیسی عنوان طبی مالی امداد
مؤثر تاریخ 1 جنوری، 2024	قابل احتساب محکمہ نیشنل کمیونٹی بیلٹہ
صفحہ 27 از 9	دستاویز کا مالک ڈائریکٹر، طبی مالی امداد

5.5.1 پیشگی اہل مریض۔ ایسے حالات جہاں اس بات کا ثبوت موجود ہو کہ ایک مریض کا اندراج کیا گیا ہے یا مالیاتی اسکریننگ کے عمل سے اس بات کا تعین کیا گیا ہے کہ وہ ممکنہ طور پر ذیل میں ذکر کیے گئے سرکاری اور نجی امدادی پروگراموں کے لیے اہل ہونے کے لیے MFA پروگرام کے لیے اہل (یعنی پہلے سے اہل) سمجھے جاتے ہیں۔ مریض کو پہلے سے اہل سمجھا جاتا ہے اگر مریض درج ذیل میں سے کسی ایک معیار پر پورا اترتا ہے:

5.5.1.1 ایک کمیونٹی (CMFA) پروگرام میں اندراج شدہ ہے جس میں مریضوں کو ریفر کیا گیا ہے اور اس کے ذریعے پری کوالیفائی کیا گیا ہے: (1) وفاقی، ریاستی، یا مقامی حکومت، (2) شرکت دار کمیونٹی پر مبنی تنظیم، یا (3) KFHP/H سپانسر شدہ کمیونٹی بیلٹہ ایونٹ میں۔

5.5.1.2 KP کمیونٹی بینیفیٹ پروگرام میں اندراج کیا گیا ہے جو کم آمدنی والے مریضوں کی دیکھ بھال تک رسائی میں مدد کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے اور KFHP/H کے نامزد اہلکاروں کی طرف سے پیشگی کوالیفائی کیا گیا ہے۔

5.5.1.3 ایک معتبر ذرائع سے جانچے گئے عوامی امدادی پروگرام (مثلاً Medicare، Medicaid ایکسچینج پر سستیاب سبستی والی کوریج) میں اندراج ہے یا اسے اہل سمجھا جاتا ہے۔

5.5.1.4 ایک معتبر ذرائع سے جانچے گئے عوامی امدادی پروگرام میں اندراج کیا گیا ہے (مثلاً، خواتین، شیرخوار اور بچوں کے پروگرام، ضمیمه غذائیت اور امدادی پروگرام، کم آمدنی والے گھریلو توانائی کی مدد کے پروگرام، مفت یا کم لاگت کے لنج پروگرام)۔

5.5.1.5 کم آمدنی والے یا سبستی والے مکانات میں رہتا ہے۔

5.5.1.6 چھلے 30 دنوں کے اندر شروع ہونے والا MFA ایوارڈ دیا گیا تھا۔

5.5.2 مالی مشکلات کے اشارے۔ ایک مریض جس نے KP کی سہولت میں دیکھ بھال حاصل کی ہے اور جس کے لیے مالی مشکلات کے اشارے بین (جیسے، ماضی کے بقایا بیلنس یا ادائیگی کرنے میں ناکامی) کو KP پروگرام کی اہلیت اور مالی مشکلات کے لیے بیرونی ٹیٹا کے ذرائع کا استعمال کرتے ہوئے اسکریننگ کر سکتا ہے۔ اگر اہل ہو تو، مریض کو صرف قابل بقایا بیلنس کے لیے MFA ایوارڈ ملے گا۔

5.5.2.1 KP کے ذریعے اہلیت کا تعین۔ KP مریضوں کو پروگرام کی اہلیت کے لیے اسکرین کر سکتا ہے اس سے پہلے کہ ان کے بقایا بیلنس قرض وصول کرنے والی ایجنسی کے حوالے کیے جائیں۔

پالیسی نمبر NATL.CB.307	پالیسی عنوان طبی مالی امداد
مؤثر تاریخ 1 جنوری، 2024	قابل احتساب محکمہ نیشنل کمیونٹی بیلٹھ
صفحہ 27 از 10	دستاویز کا مالک ڈائریکٹر، طبی مالی امداد

5.5.2.1.1 بقایا سیلف پے بیلنس-KP ایسے مریضوں کی

اسکریننگ کرے گا جن کی شناخت ذرائع کی جانچ کے معیار کی بنیاد پر پروگرام کی ابلیت کے لیے قرض جمع کرنے والی ایجنسی کے ساتھ جگہ کے لیے کی گئی ہے۔ ذیل میں سیکشن 5.6.1 دیکھیں۔

5.5.2.1.2 مالی مشکلات کے اشارے بوسکتا ہے کہ بقایا بیلنس

والے کچھ مریضوں کے لیے مالی معلومات ابلیت کا تعین کرنے کے لیے دستیاب نہ ہو، لیکن KP کو معلوم ہونے والی مالی مشکلات کے دیگر اشارے کم آمدنی کے تعین کا باعث بن سکتے ہیں۔ اب بقایا بیلنس MFA پروگرام پر لاگو کیے جائیں گے اور وصولی کی مزید کارروائیوں سے مشروط نہیں ہوں گے۔ مالی مشکلات کے اشاروں میں درج ذیل شامل ہو سکتے ہیں، لیکن ان تک محدود نہیں ہیں:

5.5.2.1.2.1 مریض ایک غیر امریکی شہری ہے

بغیر اسپانسر شپ، سوشل سیکورٹی نمبر، ٹیکس ریکارڈ، یا درست بلنگ ایڈریس؛ مریض نے KP کو اپنے اکاؤنٹ کے بارے میں نہیں بتایا ہے اور وصولی کرنے کی معقول کوششیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ مریض کے پاس اپنے ملک میں مالی یا اثنائی جات کے وسائل نہیں ہیں۔

5.5.2.1.2.2 مریض پر پہلے سے فراہم کردہ KP

خدمات کے لیے بقایا رقم ہے اور اس کے بعد سے وہ ایک طویل مدت کے لیے جیل میں قید ہے؛ شادی شدہ نہیں ہے؛ آمدنی کے کوئی اشارے نہیں ہیں؛ اور KP مریض سے رابطہ کرنے سے قادر ہے۔

5.5.2.1.2.3 مریض مر گیا ہے جس کی کوئی

جانیداد/اثاثہ یا قرض کے ذمہ دار رشتہ دار کا ریکارڈ نہیں ہے۔

5.5.2.1.2.4 مریض فوت ہو گیا ہے، اور وصیت یا

استیٹ دیوالیہ پن کو ظاہر کرتا ہے۔

پالیسی نمبر NATL.CB.307	پالیسی عنوان طبی مالی امداد
مؤثر تاریخ 1 جنوری، 2024	قابل احتساب محکمہ نیشنل کمیونٹی بیلٹہ
صفحہ 27 از 11	دستاویز کا مالک ڈائریکٹر، طبی مالی امداد

5.6 پروگرام کے لیے اہلیت کا معیار۔ جیسا کہ علاقے کے مخصوص ضمیمہ کے سیکشن 7 میں خلاصہ کیا گیا ہے، MFA کے لیے درخواست دینے والا مریض ذرائع کی جانب، یا اعلیٰ طبی اخراجات کے معیار کی بنیاد پر مالی امداد کے لیے ابل بو سکتا ہے۔ ضمیمہ برائے *Kaiser Permanente Regions (Addenda for Kaiser Permanente Regions)* منسلکات 1-8 دیکھیں۔

5.6.1 وسائل کا اندازہ لگانے کا معیار۔ مریض کا اندازہ اس بات کا تعین کرنے کے لیے کیا جاتا ہے کہ آیا مریض ذرائع کی جانب کی اہلیت کے معیار پر پورا اترتا ہے۔

5.6.1.1 ۱۰ مدنی کی سطح پر اہلیت۔ وفاqi غربت کے ربنا خخطوط (FPG) کے فیصد کے طور پر KFHP/H کے ذرائع کی جانب کے معیار سے کم یا اس کے برابر مجموعی گھریلو ۱۰ مدنی والا مریض مالی امداد کا ابل ہے۔ وسائل کی جانب میں اثنوں پر غور نہیں کیا جاتا ہے۔

5.6.1.2 گھریلو ۱۰ مدنی۔ ۱۰ مدنی کے تقاضے گھر کے افراد پر لاگو ہوتے ہیں۔ گھرانے کا مطلب ہے ایک فرد یا دو یا دو سے زیادہ افراد کا گروپ جو پیدائش، شادی، یا گود لینے سے متعلق ہے جو ایک ساتھ رہتے ہیں۔ گھرانے کے اراکین میں شریک حیات، ابل گھریلو شرکت دار، بچے، نگهداری کرنے والے رشتہ دار، نگران رشتہ داروں کے بچے، اور دوسرے افراد شامل ہو سکتے ہیں جن کے لیے اکیلا فرد، شریک حیات، گھریلو ساتھی، یا والدین مالی طور پر ذمہ دار ہیں جو کہ گھرانے میں رہتے ہیں۔

5.6.2 بہت زیادہ طبی اخراجات کا معیار۔ کسی مریض کا اندازہ اس بات کا تعین کرنے کے لیے کیا جاتا ہے کہ آیا مریض بہت زیادہ طبی اخراجات کی اہلیت کے معیار پر پورا اترتا ہے۔

5.6.2.1 بہت زیادہ طبی اخراجات کی بنیاد پر اہلیت۔ سالانہ گھریلو ۱۰ مدنی کے 10% سے زیادہ یا اس کے برابر درخواست دینے سے پہلے 12 ماہ کی مدت کے دوران ابل خدمات کے لیے اپنی جیب سے طبی اور فارمیسی کے اخراجات کے ساتھ کسی بھی مجموعی گھریلو ۱۰ مدنی کی سطح کا مریض مالی امداد کا ابل ہے۔

5.6.2.1.1 KFHP/H اپنی جیب سے کیے جانے والے اخراجات۔ KP کی سہولیات پر لگنے والے مبتدیکل اور فارمیسی کے اخراجات میں قابل ادائیگی، ڈیاٹشنس، مشترک انشورنس، اور ابل خدمات سے متعلق کٹوتیاں شامل ہیں۔

5.6.2.1.2 غیر H KFHP/H اپنی جیب سے کیے جانے والے اخراجات۔ طبی، فارمیسی، اور دانتوں کے اخراجات غیر KP سہولیات پر فراہم کیے جانے والے طبی طور پر ضروری خدمات سے متعلق، اور مریض کے ذریعے کیے گئے اخراجات (کسی بھی رعایت یا رائٹ آف کو

پالیسی نمبر NATL.CB.307	پالیسی عنوان طبی مالی امداد
مؤثر تاریخ 1 جنوری، 2024	قابل احتساب محکمہ نیشنل کمیونٹی بیلٹہ
صفحہ 27 از 12	دستاویز کا مالک ڈائریکٹر، طبی مالی امداد

چھوڑ کر) شامل ہیں۔ مریض کو غیر KP سہولیات سے موصول ہونے والی خدمات کے لیے طبی اخراجات کی دستاویزات فراہم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔

5.6.2.1.2.1 اگر غیر KFHP/H فراہم کننده ہے، چارجز لگائے جاتے ہیں وہ مالی امداد کا پروگرام پیش کرتا ہے جس کے لیے مریض اہل ہو سکتا ہے، تو مریضوں کو لازمی طور پر درخواست کرنی چاہیے اس سے پہلے کہ چارجز کو ایک اہل طبی خرچ سمجھا جائے۔

5.6.2.1.3 صحت کے منصوبوں کی پریمیئمز۔ اپنی جیب سے کیے جانے والے اخراجات میں صحت کی دیکھ بھال کی کوریج (یعنی واجبات یا پریمیم) سے وابستہ لاگت شامل نہیں ہوتی ہے۔

5.7 انکار اور اپیلین

5.7.1 انکار۔ ایک مریض جو MFA پروگرام کے لیے درخواست دیتا ہے اور اہلیت کے معیار پر پورا نہیں اترتا اسے تحریری طور پر مطلع کیا جانا ہے کہ MFA کے لیے ان کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے۔

5.7.2 انکار کی اپیل کیسے کی جائے۔ جن مریضوں کو MFA سے انکار کر دیا گیا ہے یا انہیں منظور کر لیا گیا ہے اور انہیں یقین ہے کہ وہ اعلیٰ MFA ایوارڈ کے لیے اہل ہیں وہ فیصلے کے خلاف اپیل کر سکتے ہیں۔ مریضوں کو اپیل کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے اگر: (1) انہوں نے پہلے مالی دستاویزات جمع نہیں کرائے ہیں، یا (2) ان کی گھریلو آمدنی بدل گئی ہے۔ اپیل کے عمل کو مکمل کرنے کی بدایات MFA کے انکار اور منظوری کے خطوط کے ساتھ بی MFA کی ویب سائٹ پر بھی شامل ہیں۔ نامزد H/KFHP اعلیٰ اپیلوں کا جائزہ لیتا ہے۔ مریضوں کو ان کی اپیل کے نتائج سے تحریری طور پر آگاہ کیا جاتا ہے۔ اپیل کے تمام فیصلے حتیٰ ہوتے ہیں۔

5.8 ایوارڈ کا ڈھانچہ۔ MFA ایوارڈ کا اطلاق اہل ماضی کے واجب الادا یا بقايا بيلنس، قرض وصولی کرنے والی ایجنسی کے حوالے کیے گئے بیلنس، اور زیر التواء چارجز پر بوتا ہے۔ MFA ایوارڈ میں KP فراہم کننده کی طرف سے متعین کردہ کسی بھی مطلوبہ فالو اپ خدمات کے لیے اہلیت کی مدت بھی شامل ہو سکتی ہے۔

5.8.1 ایوارڈ کی بنیاد۔ MFA پروگرام کے ذریعے ادا کی جانے والی مریض کی لاگت کا تعین اس بنیاد پر کیا جاتا ہے کہ آیا مریض کی صحت کی دیکھ بھال کی کوریج سے اور مریض کی گھریلو آمدنی۔

پالیسی نمبر NATL.CB.307	پالیسی عنوان طبی مالی امداد
مؤثر تاریخ 1 جنوری، 2024	قابل احتساب محکمہ نیشنل کمیونٹی بیلٹھ
صفحہ 27 از 13	دستاویز کا مالک ڈائریکٹر، طبی مالی امداد

MFA 5.8.1.1- صحت کی دیکھ بھال کی کورجیگے بغیر اپل مریض (غیر بیمه شدہ)۔ ایک اپل غیر بیمه شدہ مریض کو تمام اپل خدمات کی مریض کی قیمت پر رعایت ملتی ہے۔

MFA 5.8.1.2- صحت کی دیکھ بھال کی کورجیگے ساتھ اپل مریض (بیمه شدہ)۔ ایک اپل بیمه شدہ مریض کو تمام اپل خدمات کے لیے مریض کی لاگت پر رعایت ملتی ہے جس کے لیے (1) مریض ذاتی طور پر ذمہ دار ہے، اور (2) ان کے بیمه کیریئر کی طرف سے ادائیگی نہیں کی جاتی ہے۔ مریض کو دستاویزات فراہم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے کہ فوائد کی وضاحت (EOB)، تاکہ بل کے اس حصے کا تعین کیا جاسکے جو انشورنس میں شامل نہیں ہے۔ ایک اپل بیمه شدہ مریض کو اپنے بیمه کیریئر کے ساتھ کسی بھی انکار شدہ دعوے کے لیے اپل دائر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپل بیمه شدہ مریضوں کو اپنے انشورنس کیریئر کی اپل سے انکار کی دستاویزات فراہم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔

5.8.1.2.1 انشورنس کے ادارے کی جانب سے وصول کی جانے والی رقم۔ ایک اپل بیمه شدہ مریض کو KFHP/H کو KFHP/H کی طرف سے فراہم کردہ خدمات کے لیے کسی بھی ادائیگی پر دستخط کرنے کی ضرورت ہے جو مریض کو اس مریض کے انشورنس کیریئر سے موصول ہوتی ہے۔

5.8.1.3 ڈسکاؤنٹ شیڈول۔ KP طبی مالی امداد کے لیے اپل بونے والے مریض سے جو رقم وصول کرتا ہے وہ اس پروگرام کے لیے مریض کو اپل بنائے کے لیے استعمال کیے جانے والے اہلیت کے معیار پر مبنی ہے۔ پالیسی کے تحت دستیاب رعایتوں کے بارے میں اضافی معلومات کا خلاصہ متعلقہ ضمیمه میں دیا گیا ہے۔ ضمیمه برائے

Kaiser Permanente Regions (Addenda for Kaiser Permanente Regions 1-8), منسلکات 8-1 دیکھیں۔

5.8.1.3.1 فرضی اہلیت کا تعین - پیشگی اپل مریض۔ ایک مریض جو MFA اہلیت کے لیے پہلے سے اپل ہے (جیسا کہ سیکشن 5.5.1 میں خلاصہ کیا گیا ہے) مریض کی لاگت یا فراہم کردہ خدمات کے چارجز کے حصے پر سلائیڈنگ اسکیل MFA 100% رعایت حاصل کرے گا جس کے لیے مریض ذمہ دار ہے۔

5.8.1.3.2 KP کے ذریعے فرضی اہلیت کا تعین - بقایا سیلوف پے بیلنسلز۔ ایک مریض جو وسائل کی جانچ کے معیار پر پورا اترتا ہے اسے مریض کی قیمت یا فراہم کردہ خدمات کے چارجز کے حصے پر سلائیڈنگ اسکیل MFA ڈسکاؤنٹ ملے گا جس کے لیے مریض ذمہ دار ہے۔

پالیسی نمبر NATL.CB.307	پالیسی عنوان طبی مالی امداد
مؤثر تاریخ 1 جنوری، 2024	قابل احتساب محکمہ نیشنل کمیونٹی بیلٹھ
صفحہ 27 از 14	دستاویز کا مالک ڈائریکٹر، طبی مالی امداد

5.8.1.3.3 KP کے ذریعے فرضی اپلیت کا تعین - مالی مشکلات

کے اشارے۔ ایک مریض جو مالی مشکلات کے معیار کے اشارے پر پورا اترتا ہے اسے مریض کی لاگت یا فراہم کردہ خدمات کے چارجز کے اس حصے پر 100% MFA رعایت ملے گی جس کے لیے مریض ذمہ دار ہے۔

5.8.1.3.4 مریض وسائل کی جانج کے معیار پر پورا اترتا ہے۔ ایک

مریض جو وسائل کی جانج کے معیار پر پورا اترتا ہے اسے مریض کی لاگت یا فراہم کردہ خدمات کے چارجز کے حصے پر سلائیٹنگ اسکیل MFA ڈسکاؤنٹ ملے گا جس کے لیے مریض ذمہ دار ہے۔

5.8.1.3.5 مریض زیادہ طبی اخراجات کے معیار پر پورا اترتا ہے۔

ایک مریض جو زیادہ طبی اخراجات کے معیار پر پورا اترتا ہے اسے مریض کی لاگت یا فراہم کردہ خدمات کے چارجز پر 100% MFA رعایت ملے گی جن کے لیے مریض ذمہ دار ہے۔

5.8.1.4 تصفیہ سے حاصل ہونے والی باز ادائیگی KFHP/H

ذمہ داری/ذاتی بیمه کے تحفظ کے تصفیے، ادائیگی کرنے والوں، یا دیگر قانونی طور پر ذمہ دار فریقوں سے، جیسا کہ قابل اطلاق ہے، سے معاوضے کی پیروی کرتا ہے۔

5.8.2 ایوارڈ کی اپلیت کا دورانیہ۔ فالو اپ خدمات کے لیے اپلیت کا دورانیہ یا تو منظوری

کی تاریخ سے شروع ہوتا ہے، یا خدمات فراہم کرنے کی تاریخ سے، یا ادوبات کی فراہمی کی تاریخ سے۔ اپلیت کا دورانیہ صرف ایک محدود وقت کے لیے ہوتا ہے اور اس کا تعین KP کی صوابید پر مختلف طریقوں سے کیا جاتا ہے، بشمول:

5.8.2.1 وقت کا مخصوص دورانیہ۔ زیادہ سے زیادہ 365 دن اپل فالو اپ خدمات

اور بقايا مریض لاگت کے بیلنس کے لیے جن کی نشانہبی خراب قرض ریفرل سے پہلے۔

5.8.2.2 ہنر مند نرسنگ، کسٹوڈیل سروسز اور انٹرمیڈیٹ کیئر KP سے باہر

فراہم کی جانے والی خدمات کے لیے زیادہ سے زیادہ 30 دن۔

5.8.2.3 پانیدار طبی آلات۔ وینٹر فراہم کردہ طبی آلات کے لیے زیادہ سے زیادہ 180 دن۔

5.8.2.4 علاج کا طریقہ یا دیکھ بھال کا پروگرام۔ KP فراہم کنندہ کے ذریعہ طے

شده علاج کے کورس اور/یا نگہداشت کے پروگرام کے لیے زیادہ سے زیادہ 180 دن۔

پالیسی نمبر NATL.CB.307	پالیسی عنوان طبی مالی امداد
مؤثر تاریخ 1 جنوری، 2024	قابل احتساب محکمہ نیشنل کمیونٹی بیلٹھ
صفحہ 27 از 15	دستاویز کا مالک ڈائریکٹر، طبی مالی امداد

5.8.2.5 مالی امداد کے لیے دوبارہ درخواست دینا۔ موجودہ ایوارڈ کی ميعاد ختم ہونے کی تاریخ سے تیس (30) دن پہلے اور اس کے بعد کسی بھی وقت، مریض پروگرام کے لیے دوبارہ درخواست دے سکتا ہے۔

5.8.3 ایوارڈ مسترد شدہ، منسوخ کرده یا ترمیم شدہ KFHP/H اپنی صوابید پر بعض حالات میں MFA ایوارڈ کو مسترد، منسوخ یا ترمیم کر سکتا ہے۔ حالات میں شامل ہیں:

5.8.3.1 فراہ، چوری، یا مالیاتی تبدیلیاں۔ دھوکہ دبی، غلط کاری، چوری، مریض کی مالی صورت حال میں تبدیلیاں، یا دیگر حالات جو پروگرام کی سالمیت کو کمزور بناتی ہے۔

5.8.3.2 سرکاری اور نجی صحت کی کوریج کے پروگراموں کے لیے ابل بیس۔ عام اور نجی صحت کی کوریج کے پروگراموں کے لئے ایک مریض کا اہتمام کیا جاسکتا ہے لیکن ان پروگراموں کے لئے درخواست کے عمل سے تعاوں نہیں ہوتا۔

5.8.3.3 دیگر ادائیگی کے ذرائع کی شناخت۔ صحت کی کوریج یا مریض کے بعد کی شناخت دوسرے ادارے کے ذریعہ MFA ایوارڈ حاصل کرتا ہے اس وجہ سے ابل اپلکاروں کو دوبارہ ریٹریٹو طریقے سے دوبارہ بل کرنے کے الزامات کا سبب بنتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو، مریض کو بل کے اس حصے کا بل نہیں دیا جاتا ہے (1) جس کے لیے مریض ذاتی طور پر نہ مددار ہے اور (2) جس کی ادائیگی ان کے بیلٹھ کوریج یا دیگر ادائیگی کے ذریعہ سے نہیں کی جاتی ہے۔

5.8.3.4 صحت کی کوریج میں تبدیلی۔ صحت کی دیکھ بھال کی کوریج میں تبدیلی کا تجربہ کرنے والے مریض سے MFA پروگرام میں دوبارہ درخواست دینے کو کہا جائے گا۔

5.8.3.5 گھریلو آمدنی میں تبدیلی۔ گھریلو آمدنی میں تبدیلی کا تجربہ کرنے والے مریض سے MFA پروگرام میں دوبارہ درخواست دینے کو کہا جائے گا۔

5.9 چارجز کی حد MFA کے ابل مریضوں سے Kaiser Foundation Hospital میں پیش کیے گئے ابل بسپتال چارجز کے لیے مکمل ڈالر کی رقم (یعنی مجموعی چارجز) وصول کرنا منوع ہے۔ ایک مریض جس نے Kaiser Foundation Hospital میں ابل بسپتال کی خدمات حاصل کی ہیں اور وہ MFA پروگرام کے لیے ابل ہے لیکن MFA ایوارڈ نہیں ملا ہے یا MFA ایوارڈ سے انکار کر دیا ہے، ان خدمات کے لیے عام طور پر بل کی جانبے والی رقم (AGB) سے زیادہ چارج نہیں کیا جاتا ہے۔

پالیسی نمبر NATL.CB.307	پالیسی عنوان طبی مالی امداد
مؤثر تاریخ 1 جنوری، 2024	قابل احتساب محکمہ نیشنل کمیونٹی بیلٹھے
صفحہ 27 از 16	دستاویز کا مالک ڈائریکٹر، طبی مالی امداد

عام طور پر بل کردہ رقم، بنگامی یا دیگر طبی طور پر ضروری دیکھ بھال کے لیے عام طور پر بل کی جانے والی رقم (AGB) ان افراد کو جن کے پاس اس طرح کی دیکھ بھال کا احاطہ کرنے والا بیمہ ہے کا تعین KP سہولیات کے لیے کیا جاتا ہے جیسا کہ قابل اطلاق علاقوں کے مخصوص ضمیمه کے سیکشن VII میں بیان کیا گیا ہے۔ ضمیمه برائے *Kaiser Permanente Regions* (Addenda for Kaiser Permanente Regions)، منسلکات 1-8 دیکھیں۔

5.9.1

5.10 فرض وصولی کی کارروائیاں

5.10.1 مناسب اطلاع کی کوششیں۔ KFHP/H یا اس کی طرف سے کام کرنے والی فرض وصولی کرنے والی ایجنسی MFA پروگرام کے بارے میں ماضی کے بقایا یا بقایا بیلنس والے مریضوں کو مطلع کرنے کی معقول کوشش کرتی ہے۔ مناسب نوٹیفیکیشن کی کوششوں میں شامل ہیں:

5.10.1.1 پہلے بی خارج ہونے والے مادہ کے بیان کے 120 دن کے اندر ایک تحریری نوٹس فراہم کرنے والے اکاؤنٹ ہوٹر کو بتاتا ہے کہ MFA ان لوگوں کے لئے دستیاب ہے جو اپل بیں۔

5.10.1.2 غیر معمولی وصولی کے اقدامات (ECAs) کی فہرست کے ساتھ تحریری نوٹس فراہم کرنا جو KFHP/H یا قرض وصول کرنے والی ایجنسی مریض کی لاگت کے بیلنس کی ادائیگی کے لیے شروع کرنا چاہتی ہے، اور اس طرح کے اقدامات کی آخری تاریخ تحریری نوٹس کے 30 دن بعد ہوتی ہے۔

5.10.1.3 پہلے بسپتال کے مریض کے بیان کے ساتھ MFA پالیسی کی ایک سادہ زبان کا خلاصہ فراہم کرنا۔

5.10.1.4 MFA کی پالیسی کے بارے میں زبانی ہوٹر کو مطلع کرنے اور MFA درخواست کے عمل کے ذریعے مدد حاصل کرنے کے بارے میں مطلع کرنے کی کوشش کی۔

5.10.1.5 درخواست پر پروگرام کی اہلیت کا تعین، اس سے پہلے کہ مریض کے ماضی کے بقایا یا بقایا بیلنس قرض وصول کرنے والی ایجنسی کو منتقل کیے جائیں۔

5.10.2 غیر معمولی قرض وصول کرنے کی کارروائیاں معطل۔ KFHP/H قرض وصول کرنے والی ایجنسیوں کو اپنی طرف سے کارروائی کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، مریض کے خلاف غیر معمولی وصولی کی کارروائیاں (ECAs) اگر مریض:

5.10.2.1 ایک فعال MFA ایوارڈ ہے، یا

5.10.2.2 ECAs کے آغاز کے بعد MFA کی درخواست شروع کر دی ہے۔ اہلیت کا حتمی تعین ہونے تک ECAs معطل ہیں۔

پالیسی نمبر NATL.CB.307	پالیسی عنوان طبی مالی امداد
مؤثر تاریخ 1 جنوری، 2024	قابل احتساب محکمہ نیشنل کمیونٹی بیلٹہ
صفحہ 27 از 17	دستاویز کا مالک ڈائریکٹر، طبی مالی امداد

5.10.3 قابل اجازت غیر معمولی قرض وصول کرنے کی کارروائیاں۔

5.10.3.1 مناسب کوششوں کا حتمی تعین۔ کسی بھی ECAs کو شروع کرنے سے پہلے، علاقائی ریونیو سائیکل پیشنت فانشل سروسز لیڈر درج ذیل کو یقینی بناتا ہے:

5.10.3.1.1 MFA پروگرام کے مریض کو مطلع کرنے کی معقول کوششوں کی تکمیل، اور

5.10.3.1.2 مریض کو MFA کے لیے درخواست دینے کے لیے پہلے بلنگ استیمنٹ سے کم از کم 240 دن فرایم کیے گئے ہیں۔

5.10.3.2 صارفین کریڈٹ ایجنسیوں یا کریڈٹ بیورو کی رپورٹنگ۔ KFHP/H یا اس کی طرف سے کام کرنے والی قرض وصول کرنے والی ایجنسی صارفین کی کریڈٹ رپورٹنگ ایجنسیوں یا کریڈٹ بیورو کو منفی معلومات کی اطلاع دے سکتی ہے۔

5.10.3.3 عدالتی یا دیوانی کارروائیاں۔ کسی بھی عدالتی یا دیوانی کارروائیوں کی پیروی کرنے سے پہلے، KFHP/H بیرونی ڈیٹا کے ذریعے کا استعمال کرتے ہوئے مریض کی مالی حیثیت کی توثیق کرتا ہے تاکہ یہ تعین کیا جا سکے کہ آیا مریض MFA پروگرام کے لیے ابل ہے یا نہیں۔

5.10.3.3.1 MFA کے لیے ابل۔ MFA پروگرام کے ابل مریضوں کے خلاف کوئی اضافی کارروائی نہیں کی جاتی ہے۔ وہ اکاؤنٹس جو MFA کے لیے ابل ہوتے ہیں منسوخ کر دیے جاتے ہیں اور سابقہ بنیادوں پر واپس کیے جاتے ہیں۔

5.10.3.3.2 MFA کے لیے ابل نہیں ہے۔ بہت محدود معاملات میں، علاقائی چیف فانشل آفیسر یا کنٹرولر سے پہلے منظوری کے ساتھ درج ذیل اقدامات کئے جا سکتے ہیں:

5.10.3.3.2.1 اجرت کے حصول

5.10.3.3.2.2 مقدمات/دیوانی کارروائیاں۔ قانونی کارروائی کسی فرد کے خلاف عمل نہیں کیا جاتا جو بے روزگاری اور دیگر اہم آمدنی کے بغیر ہے۔

5.10.3.3.2.3 رباش گاہوں پر لینز۔

پالیسی نمبر NATL.CB.307	پالیسی عنوان طبی مالی امداد
مؤثر تاریخ 1 جنوری، 2024	قابل احتساب محکمہ نیشنل کمیونٹی بیلٹھے
صفحہ 27 از 18	دستاویز کا مالک ڈائریکٹر، طبی مالی امداد

5.10.4 منوعہ غیر معمولی قرض وصولی کرنے والی کارروائیاں۔ KFHP/H

حالت میں نہ تو خود درج ذیل کام انجام دیتا ہے، نہ بی اس کی اجازت دیتا ہے نہ بی قرض وصول کرنے والی ایجنسیوں کو اجازت دیتا ہے:

5.10.4.1 اکاؤنٹ ہولڈر کی جانب سے پچھلے بیلنس کی عدم ادائیگی کی وجہ سے دیکھ بھال کو موخر یا اس سے انکار کرنا، یا بنگامی یا طبی طور پر ضروری دیکھ بھال فرایم کرنے سے پہلے ادائیگی کا تقاضہ کرنا۔

5.10.4.2 اکاؤنٹ ہولڈر کا قرض کسی تیسرے فریق کو فروخت کرنا۔

5.10.4.3 اثنوں کی فروخت پر پابندی یا اکاؤنٹس کا منجمد کرنا۔

5.10.4.4 گرفتاری کے وارنٹس کی درخواست کرنا۔

5.10.4.5 باٹی ایچمنٹ کی رٹ کی درخواست کرنا۔

5.11 ڈیزاسٹر اور پبلک بیلٹھے ایمرجنسی رسپانس۔ KFHP/H اپنے MFA پروگرام کی اہلیت کے معیار اور درخواست کے عمل میں عارضی طور پر ترمیم کر سکتا ہے تاکہ کسی معروف واقعہ سے متاثرہ کمیونٹیز اور مریضوں کے لیے دستیاب امداد کو بڑھایا جا سکے جسے ریاست یا وفاقی حکومت نے آفت یا صحت عامہ کی بنگامی صورتحال کے طور پر ابل قرار دیا ہو۔

5.11.1 ممکنہ اہلیت میں ترمیمات۔ MFA اہلیت کے معیار میں عارضی تبدیلیوں میں شامل ہو سکتے ہیں:

5.11.1.1 اہلیت کی پابندیاں معطل کرنا۔

5.11.1.2 ذرائع کی جانچ کے معیار کی حد کو بڑھانا۔

5.11.1.3 بہت زیادہ طبی اخراجات کے معیار کی حد کو کم کرنا۔

5.11.2 ممکنہ درخواست کے عمل میں ترمیمات۔ MFA درخواست کے عمل میں عارضی تبدیلیوں میں شامل ہو سکتے ہیں:

5.11.2.1 مریضوں کو بنیادی مالی معلومات فرایم کرنے (یعنی آمدنی، اگر کوئی ہے، اور ذریعہ) اور اس کی درستی کی تصدیق کرنے کی سہولت دینا جب (1) ان کی مالی حیثیت کی بیرونی ڈیٹا کے ذرائع سے تصدیق نہیں کی جا سکتی ہے، (2) وقوع کی وجہ سے درخواست کردہ مالی دستیاب نہیں ہے، اور (3) کوئی دوسرا ثبوت موجود نہیں ہے جو اہلیت کو ظاہر کر سکتا ہے۔

5.11.2.2 گھریلو آمدنی کا تعین کرتے وقت وقوع کی وجہ سے اجرت/ملازمت کے مستقبل میں ہونے والے نقصان کے اثرات کو مدنظر رکھنا۔

پالیسی نمبر NATL.CB.307	پالیسی عنوان طبی مالی امداد
مؤثر تاریخ 1 جنوری، 2024	قابل احتساب محکم نیشنل کمیونٹی بیلٹہ
صفحہ 27 از 19	دستاویز کا مالک ڈائریکٹر، طبی مالی امداد

5.11.3 عوام کے لیے دستیاب معلومات MFA پروگرام کی عارضی تبدیلیوں کو بیان کرنے والی معلومات MFA پروگرام کے ویب پیج اور متاثرہ علاقوں میں KP کی سہولیات پر عوام کے لیے دستیاب ہیں۔

6.0 ضمیمه/حوالہ جات

6.1 ضمیمه

6.1.1 ضمیمه A – اصطلاحات کی فربنگ

6.2 منسلکات

منسلکہ 1 کے لیے ضمیمه Kaiser Permanente Colorado – **6.2.1**

منسلکہ 2 کے لیے ضمیمه Kaiser Permanente Georgia – **6.2.2**

منسلکہ 3 کے لیے ضمیمه Kaiser Permanente Hawaii – **6.2.3**

منسلکہ 4 کے لیے ضمیمه Kaiser Permanente Mid-Atlantic States – **6.2.4**

منسلکہ 5 کے لیے ضمیمه Kaiser Permanente Northern California – **6.2.5**

منسلکہ 6 کے لیے ضمیمه Kaiser Permanente Northwest – **6.2.6**

منسلکہ 7 کے لیے ضمیمه Kaiser Permanente Southern California – **6.2.7**

منسلکہ 8 کے لیے ضمیمه Kaiser Permanente Washington – **6.2.8**

حوالہ جات 6.3

Patient Protection and Affordable Care Act, Public Law **6.3.1**

111-148 (124 Stat. 119 (2010))

Federal Register and the Annual Federal Poverty Guidelines **6.3.2**

Internal Revenue Service Publication, 2014 Instructions for **6.3.3**
Schedule H (Form 990)

Internal Revenue Service Notice 2010-39 **6.3.4**

Internal Revenue Service Code, 26 CFR Parts 1, 53, and 602, **6.3.5**
RIN 1545-BK57; RIN 1545-BL30; RIN 1545-BL58 – Additional Requirements for Charitable Hospitals

California Hospital Association – Hospital Financial Assistance **6.3.6**
Policies & Community Benefit Laws, 2015 Edition

پالیسی نمبر NATL.CB.307	پالیسی عنوان طبی مالی امداد
مؤثر تاریخ 1 جنوری، 2024	قابل احتساب محکم نیشنل کمیونٹی بیلٹھ
صفحہ 20 از 27	دستاویز کا مالک ڈائریکٹر، طبی مالی امداد

Catholic Health Association of the United States – A Guide for **6.3.7**
Planning & Reporting Community Benefit, 2012 Edition

6.3.8 فرآم کنندگان کی فہرستیں فرآم کنندگان کی فہرستیں KFHP/H ویب سائٹس پر
دستیاب ہیں:

Kaiser Permanente of Hawaii **6.3.8.1**
(www.kp.org/mfa/hawaii)

Kaiser Permanente of Northwest **6.3.8.2**
(www.kp.org/mfa/nw)

Kaiser Permanente of Northern California **6.3.8.3**
(www.kp.org/mfa/ncal)

Kaiser Permanente of Southern California **6.3.8.4**
(www.kp.org/mfa/scal)

Kaiser Permanente of Washington **6.3.8.5**
(www.kp.org/mfa/wa)

پالیسی نمبر NATL.CB.307	پالیسی عنوان طبی مالی امداد
مؤثر تاریخ 1 جنوری، 2024	قابل احتساب محکمہ نیشنل کمیونٹی بیلٹہ
صفحہ 21 از 27	دستاویز کا مالک ڈائریکٹر، طبی مالی امداد

ضمیمه A – اصطلاحات کی فربنگ

کمیونٹی MFA (CMFA) – منصوبہ بند طبی مالی امداد کے پروگرام جو کمیونٹی پر مبنی اور حفاظتی نیٹ ورک تنظیموں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں تاکہ KP سہولیات میں کم آمدنی والے غیر بیمه شدہ اور کم بیمه شدہ مریضوں کو طبی طور پر ضروری دیکھ بھال تک رسائی فراہم کریں۔

قرض وصول کرنے والی ایجنسی – ایک ایسا شخص یا تنظیم جو، براہ راست یا بالواسطہ کارروائی کے ذریعے، کسی قرض دہنہ یا قرض کے خریدار سے واجب الادا قرض، یا مبینہ طور پر واجب الادا قرض کو وصول کرنے کی کوششیں کرتی ہے یا کارروائی کرتی ہے۔

پانیدار طبی آلات (DME) – میں شامل ہیں، لیکن انھی تک محدود نہیں: معیاری کینز، بیساکھیاں، نیبولائزر، مطلوبہ فائدہ مند سپلائیز، گھر میں استعمال کے لیے دروازے پر ٹریکشن یونٹ، وہیل چیئر، واکرز، بسپتال کے بسٹر، اور گھر میں استعمال کے لیے اکسیجن جیسا کہ DME کے معیار میں وضاحت کردہ ہے۔ DME میں آرٹھوٹکس، پروستھیٹکس (مثلاً، ڈائنامک اسپلائش/آرٹھوسیس، اور مصنوعی نرخڑہ اور سپلائیز) اور بغیر پرچے کے ملنے والی سپلائیز اور نرم اشیاء (مثلاً یورو لوچیکل سپلائیز اور زخم کی سپلائیز) شامل نہیں ہیں۔

ابل مریض – ایک ایسا فرد جو اس پالیسی میں بیان کردہ اہلیت کے معیار پر پورا اترتا ہے، چاہے مریض (1) غیر بیمه شدہ ہو۔ (2) عوامی پروگرام کے ذریعے کوریج حاصل کرتا ہو (مثال کے طور پر، Medicare، Medicaid، یا کسی بیلٹہ انشورنس ایکسچینج کے ذریعے خریدی گئی سبسٹی والی صحت کی دیکھ بھال کی کوریج)؛ (3) KFHP کے علاوہ کسی اور بیلٹہ پلان کے ذریعے بیمه شدہ ہو؛ یا (4) KFHP کے ذریعے احاطہ کرتا ہے۔

بیرونی ڈیٹا کے ذرائع – فریق ثالث وینڈرز عوامی ریکارڈ ڈیٹا بیس پر مبنی مائل کا استعمال کرتے ہوئے مالی ضرورت کا اندازہ لگانے کے لیے مریض کی ذاتی معلومات کا جائزہ لیتے تھے جو کہ بر مریض کا اندازہ اسی معیار کی بنیاد پر کرتا ہے تاکہ مریض کی مالی صلاحیت کے اسکور کا حساب لگایا جاسکے۔

وفاقی غربت کی گائیڈلائنز (FPG) – غربت کے لیے سالانہ آمدنی کی سطحیں جیسا کہ ریاستہائے متعدد کے مکمل صحت اور انسانی خدمات کے ذریعے متین کی گئی ہیں اور وفاقی رجسٹر میں سالانہ طور پر اپ ڈیٹ کی جاتی ہیں۔

مالی مشاورت – یہ عمل مریضوں کی مدد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ وہ KP سہولیات میں فراہم کی جانے والی خدمات کے لیے ادائیگی کے دستیاب مالیاتی اور صحت کے کوریج کے مختلف اختیارات تلاش کر سکیں۔ وہ مریض جو مالی مشاورت حاصل کر سکتے ہیں ان میں شامل ہیں، لیکن ان تک محدود نہیں، خود ادائیگی، غیر بیمه شدہ، کم بیمه شدہ، اور وہ لوگ جنہوں نے مریض کی مکمل ذمہ داری ادا کرنے سے عاجزی کا اظہار کیا ہو۔

بے گھر – کسی شخص کی زندگی کی حالت کے لیے صورت حال کا بیان کار، جیسا کہ ذیل میں بیان کیا ہے:

- ایسی جگہوں پر جو انسانی رہائش کے لیے نہ ہوں، جیسے کاریں، پارکس، فٹ پانہ، متروک عمارتیں (سڑک پر)۔
- بنگامی پناہ گاہ میں۔

پالیسی نمبر NATL.CB.307	پالیسی عنوان طبی مالی امداد
مؤثر تاریخ 1 جنوری، 2024	قابل احتساب محکم نیشنل کمیونٹی بیلٹہ
صفحہ 22 از 27	دستاویز کا مالک ڈائریکٹر، طبی مالی امداد

- بے گھر افراد کے لیے عبوری یا معاون رہائش میں جو اصل میں سڑکوں یا ہنگامی پناہ گاہوں سے آئے تھے۔
- مندرجہ بالا جگہوں میں سے کسی میں لیکن بسپتال یا دوسرے ادارے میں مختصر وقت (مسلسل 30 دن تک) گزار رہا ہو۔
- ایک ہفتے کے دوران ایک نجی مکان سے بے دخل کیا جا رہا ہو یا گھریلو تشدد کی صورتحال سے بھاگ رہا ہو اور کوئی مناسب رہائش کی نشاندہی نہ ہو اور فرد کے پاس گھر کے حصول کے لئے ضروری وسائل اور حمایتی نیٹ ورکس کی کمی ہو۔
- ایک ہفتے کے دوران ایک ادارے سے ڈسچارج کیا جا رہا ہو جیسا کہ ذہنی صحت یا مخصوص برائی کے علاج کی سہولت میں چہاں وہ فرد مسلسل 30 دن سے زیادہ رہائش رکھے چکا ہو اور کوئی مناسب رہائش کی نشاندہی نہ ہو سکی ہواور فرد کے پاس مالیاتی وسائل اور سماجی حمایت کی کمی ہو جو رہائش کے حصول کے لئے ضروری ہیں۔

KP - میں Kaiser Foundation Hospitals اور منسلک بسپتال کے کلینک، Kaiser Foundation Health Plans Permanent Medical Groups، Kaiser Foundation Health Plans ادارے شامل ہیں، سوائے Kaiser Permanente Insurance Company (KPIC) کے۔

KP سہولیات - کوئی بھی موجود احاطے، KP کی طرف سے KP کا کاروبار چلانے کے لئے ملکیتی یا لیز پر ایک عمارت کا اندرونی اور بیرونی حصہ شامل ہے جس میں مریض کو نگداشت کی فراہمی بھی شامل ہے (مثال کے طور پر ایک عمارت، یا ایک KP فلور، یونٹ، یا غیر KP عمارت کا دوسرا اندرونی یا بیرونی حصہ)۔

جانچے گئے وسائل - وہ طریقہ جس کے ذریعے مریض کے ذریعے مریض کے ذریعہ فراہم کردہ بیرونی ٹیٹا کے ذرائع یا معلومات کو عوامی کوریج پروگرام یا MFA کی ایلیٹ کا تعین کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس بنیاد پر کہ آیا فرد کی گھریلو آمدنی وفاqi غربت کے ربنا خوطوں کی تعین کردہ فیصد سے زیادہ ہے۔

میڈیکل فاننشیل اسٹٹھ (MFA) - ایک پروگرام جو اپل مریضوں کے طبی اخراجات ادا کرنے کے لیے ایوارڈز فراہم کرتا ہے جو اپنی طبی طور پر ضروری خدمات، پرائیویٹ، یا ادویات کے تمام یا کچھ حصے کی ادائیگی کرنے سے قاصر ہیں، اور جنہوں نے سرکاری اور نجی ادائیگی کرنے والے ذرائع کا پورا استعمال کر لیا ہے۔ مریضوں کی دیکھ بھال کے کچھ یا تمام اخراجات ادا کرنے کے لیے افراد کو پروگرام کے معیار پر پورا اترنے کی ضرورت ہے۔

طبی سپلائز - دوبارہ قابل استعمال طبی مواد جیسے اسپلانٹس، سلنگز، زخم کی ڈریسنگ، اور پٹیاں جو ایک لانسنس یافتہ نگداشت صحت فراہم کننے کے ذریعہ طبی طور پر ضروری خدمات فراہم کرتے وقت لگائی جاتی ہیں، اور ان مواد کو چھوڑ کر جو کسی مریض نے خریدا یا حاصل کیا ہو۔ دوسرے ذریعہ سے۔

مریض کی لاگت - KP کی سہولیات (جیسے بسپتال، بسپتال سے منسلک کلینک، طبی مراکز، طبی دفتر کی عمارتیں اور آوٹ پیشنت فارمیسی) پر وصول کیے جانے والے نگداشت کے لیے مریض کو بل کیے جانے والے چارجز کا وہ حصہ جو انسورنس یا سرکاری فنڈ کردہ نگداشت صحت پروگرام کے ذریعے ادا نہیں کیا جاتا۔

فارمیسی کی چھوٹ - کم آمدنی والے Medicare KP Senior Advantage Medicare پارٹ ڈی کے ممبران کو مالی امداد فراہم کرتا ہے جو Medicare پارٹ ڈی کے تحت آئے والی بیرونی مریضوں کے نسخے کی دوائیوں کے لیے اپنی لاگت کا حصہ برداشت کرنے سے قاصر ہیں۔

پالیسی نمبر NATL.CB.307	پالیسی عنوان طبی مالی امداد
مؤثر تاریخ 1 جنوری، 2024	قابل احتساب محکمہ نیشنل کمیونٹی بیلٹھے
صفحہ 23 از 27	دستاویز کا مالک ڈائریکٹر، طبی مالی امداد

سیفیٹی نیٹ - غیر منفعتی تنظیموں اور/یا سرکاری ایجنسیوں کا ایک نظام جو کمیونٹی سیٹھگ جیسے کہ سرکاری ہسپتال، کمیونٹی کلینک، چرچ، بے گھروں کی پناہ گاہ، موبائل بیلٹھے یونٹ، اسکول میں غیر بیمه شدہ یا کم بیمه شدہ افراد کو براہ راست طبی دیکھ بھال کی خدمات فراہم کرتا ہے۔

کم بیمه شدہ - ایک ایسا فرد جس کی نگہداشت صحت کی کوئی بونے کے باوجود یہ معلوم ہوتا ہے کہ انشورنس کی پریمیم، مشترکہ ادائیگی، مشترک انشورنس، اور قابل کٹوتیوں کی ادائیگی کی ذمہ داری اس قدر اب مالی بوجھے ہے کہ اپنی جیب سے کی جانے والی لاکتوں کے سبب مریض کو صحت کی دیکھ بھال کی ضروری خدمات میں تاخیر ہوتی ہے یا نہیں ملتی ہے۔

غیر بیمه شدہ - ایک ایسا فرد جس سے نگہداشت صحت کی خدمات کی ادائیگی میں مدد کرے لیے نگہداشت صحت کی انشورنس یا وفاقي- یا ریاست کی طرف سے کفالت شدہ مالی امداد حاصل نہیں ہے۔
خطرے سے دوچار آبادیاں - آبادیاتی گروہ جن کی صحت اور بہبود کو سماجی اقتصادی حیثیت، بیماری، نسل، عمر، یا دیگر معدوری کے عوامل کے سبب عام آبادی کے مقابلے میں زیادہ خطرے میں سمجھا جاتا ہے۔
حاضر عدالت کرنے کا حکم نامہ - کسی عدالت کے ذریعے شروع کیا جانے والا عمل جس میں حکام کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کو عدالت کے سامنے پیش کریں جو توہین عدالت کا مرتكب بوا ہو، یہ کسی گرفتاری کے وارنٹ کی طرح ہوتا ہے۔

پالیسی نمبر NATL.CB.307	پالیسی عنوان طبی مالی امداد
مؤثر تاریخ 1 جنوری، 2024	قابل احتساب محکمہ نیشنل کمیونٹی بیلٹھ
صفحہ 24 از 27	دستاویز کا مالک ڈائریکٹر، طبی مالی امداد

ضمیمه: Kaiser Permanentے جنوبی کیلیفورنیا

ضمیمه کی تاریخ نفاذ: 1 جنوری، 2024

I. . سے منسلک کلینک، طبی مرکز، اور طبی دفتر کی عمارتیں) اور بیرونی مریض فارمیسیوں پر لاگو ہوتی ہے۔ جنوبی کیلیفورنیا کے Kaiser Foundation Hospitals میں درج ذیل شامل ہیں:

KFH Moreno Valley	KFH Anaheim
KFH San Diego	KFH Irvine
KFH West Los Angeles	KFH Baldwin Park
KFH Woodland Hills	KFH Fontana
KFH Downey	KFH South Bay
KFH Ontario	KFH Los Angeles
KFH Zion	KFH Panorama
KFH San Marcos	KFH Riverside

نوت: Kaiser Foundation Hospitals ہسپتالوں کی منصافانہ قیمتیوں والی پالیسیوں، کیلیفورنیا بیلٹھ اینڈ سیفٹی کوڈ §127400 کی تعییل کرتے ہیں۔

ایک ہنگامی معالج جو جنوبی کیلیفورنیا کے Kaiser Foundation Hospitals میں ہنگامی طبی خدمات فراہم کرتا ہے، اس سے تقاضہ کیا جاتا ہے کہ وہ قانون کے مطابق غیر بیمه شدہ مریضوں یا زیادہ طبی اخراجات والے مریضوں کو جو وفاqi غربت کی سطح کے 400% یا اس سے کم کی سطح پر زندگی بسر کرتے ہیں، رعایت فراہم کرے۔

.II. وہ اضافی خدمات جو MFA پالیسی کے تحت اہل اور اہل نہیں ہیں

a. اضافی اہل خدمات

a. بے گھر مریضوں کے لیے نقل و حمل۔ بے گھر مریض کے لیے KP Hospital یا KP کے ایمرجنسی ٹیپارٹمنٹس سے ہنگامی اور غیر ہنگامی حالات میں ٹسچارج کی سہولت کے لیے دستیاب ہے۔

b. اضافی غیر اہل خدمات

i. سمعی آلات

ii. بصری سپلائز

پالیسی نمبر NATL.CB.307	پالیسی عنوان طبی مالی امداد
مؤثر تاریخ 1 جنوری، 2024	قابل احتساب محکمہ نیشنل کمیونٹی بیلٹہ
صفحہ 25 از 27	دستاویز کا مالک ڈائریکٹر، طبی مالی امداد

III. وہ فرایم کنندگان جو MFA پالیسی کے تابع ہیں اور جو تابع نہیں ہیں۔ Kaiser Foundation Hospitals کے ان فرایم کنندگان کی فہرست جو MFA پالیسی کے تابع ہیں اور جو تابع نہیں ہیں، عوام الناس کے لیے، بلا قیمت، KFHP/H MFA کی ویب سائٹ پر یہاں دستیاب ہے
www.kp.org/mfa/scal

IV. پروگرام کی معلومات اور MFA کے لئے درخواست دینا۔ MFA پروگرام کی معلومات، بشمول پالیسی کی کاپیاں، درخواست فارم، بہایات، اور سادہ زبان میں خلاصے (یعنی پروگرام کے بروشورز)، عام لوگوں کے لیے بغیر کسی معاوضے کے، الیکٹرانک فارمیٹ یا بارڈ کاپی میں دستیاب ہیں۔ ایک مریض MFA پروگرام کے لیے KFHP/H سے ملنے والی نگرانی کے دوران یا اس کی پیروی کرنے کے لیے کئی طریقوں سے بشمول آن لائن، ذاتی طور پر، ٹیلی فون کے ذریعے، یا کاغذی درخواست کے ذریعے، درخواست دے سکتا ہے۔ (پالیسی کے سیکشن 5.3 اور 5.4 سے رجوع کریں)۔

a. KFHP/H کی ویب سائٹ سے آن لائن اپلی کیشن مکمل کریں اور جمع کرائیں۔ کوئی مریض MFA کی ویب سائٹ www.kp.org/mfa/scal پر الیکٹرانک طور پر درخواست کی معلومات شروع اور جمع کرا سکتا ہے۔

b. KFHP/H ویب سائٹ سے پروگرام کی معلومات ڈاؤن لوڈ کریں۔ پروگرام کی معلومات کی الیکٹرانک نقول MFA کی ویب سائٹ www.kp.org/mfa/scal پر دستیاب ہیں۔

c. الیکٹرانک طریقے سے پروگرام کی معلومات کی درخواست کریں۔ پروگرام کی معلومات کی الیکٹرانک نقول بدزیریعہ ای میل CSS-MFA-DEPARTMENT@KP.org پر درخواست کرنے پر دستیاب ہیں۔

d. پروگرام کی معلومات حاصل کرنا یا ذاتی طور پر درخواست دینا۔ پروگرام کی معلومات سیکشن I، Kaiser Foundation Hospitals میں فہرست کردہ Kaiser Foundation Hospitals کے داخلہ اور ایمرجننسی روم ڈیپارٹمنٹس میں دستیاب ہے۔

e. پروگرام کی معلومات طلب کریں یا ٹیلی فون کے ذریعہ درخواست دین۔ ٹیلی فون پر معلومات کی فرایم کے لئے مشورہ دینے والے دستیاب ہیں تاکہ MFA کی اہلیت کا تعین ہوسکے اور مریض کو MFA کے لئے درخواست دینے میں معاونت مل سکے۔ مشوروں سے درج ذیل نمبروں پر رابطہ کیا جا سکتا ہے:

ٹیلی فون نمبر: 1-800-390-3507

f. پروگرام سے متعلق معلومات طلب کریں یا میل کے ذریعہ درخواست کریں۔ ایک مریض پروگرام معلومات کے لئے درخواست کر سکتا ہے اور MFA کے لئے میل کے ذریعے مکمل MFA کی درخواست داخل کر سکتا ہے۔ معلومات کی عرضیاں اور درخواستیں درج ذیل پر میل کی جاسکتی ہیں:

پالیسی نمبر NATL.CB.307	پالیسی عنوان طبی مالی امداد
مؤثر تاریخ 1 جنوری، 2024	قابل احتساب محکمہ نیشنل کمیونٹی بیلٹہ
صفحہ 26 از 27	دستاویز کا مالک ڈائریکٹر، طبی مالی امداد

Kaiser Permanente
 برائے توجہ: Medical Financial Assistance
 P.O. Box 7086
 Pasadena, CA 91109-7086

g. مکمل شدہ درخواست ذاتی طور پر پہنچائیں۔ مکمل شدہ درخواستیں بر ایک Kaiser Foundation Hospitals کے داخلہ ٹیپارٹمنٹ میں ذاتی طور پر پہنچائی جا سکتی ہیں۔

.v. اہلیت کا معیار. MFA کی اہلیت کا تعین کرتے وقت مریض کی گھریلو آمدنی پر غور کیا جاتا ہے۔

(پالیسی کے سیکشن 5.6.1 سے رجوع کریں)۔

a. ذرائع کی جانچ کا معیار: وفاqi غربت کے رہنمای اصول کے 400% تک۔

.VI. ڈسکاؤنٹ شیڈول، KP طبی مالی امداد کے لیے اہل ہونے والے مریض سے جو رقم وصول کرتا ہے وہ اس پروگرام کے لیے مریض کو اہل بنانے کے لیے استعمال کیے جانے والے اہلیت کے معیار پر مبنی ہے۔

a. مریض وسائل کی جانچ کے معیار پر پورا اترتا ہے۔ ایک مریض جو وسائل کی جانچ کے معیار پر پورا اترتا ہے اسے مریض کی لاگت یا فرابم کردہ KP خدمات کے چارجز کے حصے پر سلانیٹنگ اسکیل ڈسکاؤنٹ ملے گا جس کے لیے مریض ذمہ دار ہے۔ ڈسکاؤنٹ کی رقم کا تعین اس بنیاد پر کیا جاتا ہے کہ مریض کی گھریلو آمدنی وفاqi غربت کی سطح (FPL) کے رہنمای خطوط میں کہاں آتی ہے:

مالی امداد میں ڈسکاؤنٹ	وفاقی غربت کی سطح کے رہنمای خطوط	
	تک	سے
100% ڈسکاؤنٹ	200% - 0%	
50% ڈسکاؤنٹ	400% - 201%	

اگر جزوی رعایت (100% سے کم) دی جاتی ہے، تو بقیہ بیلنس مکمل طور پر ادا کرنا ہوگا یا مریض کے پاس بلا سود ادائیگی کا منصوبہ ترتیب دینے کا اختیار ہے۔

.VII. عام طور پر بل کی جانے والی رقم (AGB) کا حساب لگانے کی بنیاد KFHP/H AGB کی شرح سے ضرب دے کر کسی بھی بنگامی یا دیگر طبی طور پر ضروری دیکھ بھال کے لیے AGB کا تعین کرتا ہے۔ AGB کی شرح اور حساب سے متعلق معلومات KFHP/H MFA ویب سائٹ www.kp.org/mfa/scal پر دستیاب ہے۔

پالیسی نمبر NATL.CB.307		پالیسی عنوان طبی مالی امداد
مؤثر تاریخ 1 جنوری، 2024		قابل احتساب محکمہ نیشنل کمیونٹی بیلٹھ
صفحہ 27 از 27		دستاویز کا مالک ڈائریکٹر، طبی مالی امداد

VIII. ریفنڈز (رقم واپسی) ایسے معاملات میں جب KP نے اپنے فعال MFA ایوارڈ کی مدت کے اندر کسی مریض سے غلطی سے ادائیگی جمع کرا لی ہو، مریض کو ادا کی گئی کسی بھی رقم کے لیے رقم کی واپسی شروع کی جائے گی جو فعال MFA ایوارڈ کے تحت کور کی جاتی ہے۔

- a. کوڈ آف سول پروسیجر کے سیکشن 685.010 میں بیان کردہ شرح پر سود جمع ہوگا۔ مریض کی طرف سے ادائیگی ہسپتال کو موصول ہونے کی تاریخ سے شروع ہوتی ہے۔ موجودہ شرح 10% ہے۔

.IX. نوٹسز۔

a. اپنے بل کی ادائیگی میں مدد کریں

صارفین کی حمایت کی مفت تنظیمیں ہیں جو بلنگ اور ادائیگی کے عمل کو سمجھنے میں آپ کی مدد کریں گی۔ آپ Health Consumer Alliance کو 888-3536-804 پر کال کر سکتے ہیں یا مزید معلومات کے لیے healthconsumer.org پر جا سکتے ہیں۔

b. ہسپتال بل کی شکایت کا پروگرام

ہسپتال کے بل کی شکایت کا پروگرام ایک ریاستی پروگرام ہے، جو ہسپتال کے فیصلوں کا جائزہ لیتا ہے کہ آیا آپ اپنے ہسپتال کے بل کی ادائیگی میں مدد کے ابل ہیں یا نہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو غلط طریقے سے مالی امداد سے انکار کر دیا گیا ہے، تو آپ ہسپتال بل کی شکایت پروگرام میں شکایت درج کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات اور شکایت درج کرانے کے لیے HospitalBillComplaint.hcai.ca.gov پر جائیں۔

c. برائے توجہ: زبان کی مدد

اگر آپ کو اپنی زبان میں مدد کی ضرورت ہے، تو براہ کرم 1-800-464-4000 (TTY 711) پر کال کریں۔ مدد بفترے کے ساتوں دن 24 گھنٹے دستیاب رہتی ہے، چھٹیوں کو چھوڑ کر۔ معذور افراد کے لیے امداد اور خدمات، جیسے بریل، بڑے پرنٹ، آڈیو، اور دیگر قابل رسائی الیکٹرانک فارمیٹس دستاویزات بھی دستیاب ہیں۔ یہ خدمات مفت ہیں۔